

Q. 1.

Translate the following into English by keeping in view figurative/idiomatic expressions.

(10)

بعض اوقات ایسا بھی ہر دور اپنے ساتھ بہت سے ایسے معاملات بھی لے کر آتا ہے جو کسی کی پسند کے نہیں ہوتے مگر انہیں قبول کرنا ہی پڑتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قدرت شاید ہمیں آزمانے کی خاطر ایسا بہت کچھ ہمارے سامنے رکھتی ہے جو ہمارے مطالب کا نہیں ہوتا بلکہ اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا مگر پھر بھی اسے زندگی کا حصہ بناتے ہوئے چلنا پڑتا ہے۔ آج بھی ایسا ہی چل رہا ہے۔ ہر صدی اپنے ساتھ ایسی تبدیلیاں لاتی رہی ہے جو گزشتہ صدیوں کے مقابلے میں بالکل نئی تھیں۔ فطری علوم و فنون کی ترقی نے انسان کو ایسا بہت کچھ دیا ہے جسے علمی و معاشی عمل کا پھر اقرار دیا جاتا ہے۔ قدرت ہمیں چل دیتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی پابند کرتی ہے کہ اس کے چھکوں کو ڈھنگ سے ٹھکانے لگائیں۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو احوال کی غلطی بڑھتی ہے

~~Translation 2022~~

every era brings along such

There are some circumstances in every
Era, which had to be accepted even

incorrect translation

if they are not according to someone's
likings. Sometimes ~~nature presents things~~ <sup>sometimes, nature in order to tests us, puts
forth such things</sup>

against our will for testing us. But, we

had to ~~had~~ [✓] make them a part of our
level. ~~Same~~ [✓] ~~is~~ ^{same is happening even today} ~~happening~~ ^{is} ~~in~~ ^{happening} ~~today's~~ ^{is} ~~world.~~ ^{happening}

Every century comes with completely
new changes with ~~itself~~ <sup>as compared to the previous
centuries</sup>.

The progress of ~~nature's literature~~ has given man the
things, which can be called as the
leftovers of educational and economic
development. Nature gives us the fruits
and, in return, compelled to dispose
off the garbage. In contrast,
it ~~is~~ aggregated the dirtiness of our
environment.

you have left many urdu sentences
untranslated
need improvement
urdu context is incorrect
0/10
need improvement